

Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

بزرگ نے بتایا کہ جنگل کے پار ایک پہاڑ ہے جہاں وہ پھول اگتا ہے جس کی خوشبو سے
آنکھوں کی کھوئی ہوئی روشنی لوٹ آتی ہے، مگر پہاڑ بہت بلند ہے اور اس پر بے شمار
چٹانیں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور بڑے بڑے پتھر ہیں جو راستہ روک لیتے ہیں۔ اس پہاڑ
پر جانے کے لیے کئی لوگ آئے اور چلے گئے مگر ایسا کوئی شخص نہیں آیا جو پھول تک
پہنچا ہو۔ شاید اسی لیے دنیا میں دکھ اور تکلیف ہے اور انسان روشنی کی تلاش میں ہے۔

The old man ^{told} that
there is a mountain across forest,
where he grows flower, ^{where such a flower blooms whose fragrance brings back the lost vision} from which
fragrance, the lost light of eyes
come back but the mountain is
so high and have many cliffs,
thorny bushes and large stones that
stop the way. To ^{go} ~~went~~ on this mountain
many people come and ^{went back} go, but no
one came who ^{could} ~~reach~~ ^{to} the flower.
Perhaps, that's why there is pain
and sorrow in the world and
man is in search of light.

need improvement
attend to pointed out mistakes 4/10